

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا“ (البقرہ)

رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ

فضائل، فوائد و ثمرات

احکام و مسائل اور کرنے والے کا

www.ircpk.com

حافظ صلاح الدین یوسف

وَأَزَلِّمُوا

کتاب و سنت کی اشد حمایت کا عالمی ادارہ





اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے

فہرست مضامین

6 عرض ناشر
7 روزوں کی فضیلت احادیث صحیحہ کی روشنی میں
13 رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت
16 رمضان کی فضیلت میں بعض ضعیف روایات
20 روزے کے فوائد و ثمرات
20 تقویٰ کا حصول اور تقویٰ کے ثمرات
22 تقویٰ کے ثمرات و فوائد
24 لمحہ فکر اور دعوت غور و فکر
25 روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مددگار عمل ثابت ہوتا ہے
26 روزے سے صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے
27 روزے سے اخوت و ہمدردی کا احساس اجاگر ہوتا ہے
28 روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے
29 روزے داروں کے لیے وعید
30 احکام و مسائل
30 روزے کی اہمیت
30 روزے کا وجوب
31 روزے کی تعریف
31 روزے کا مقصد
33 مختلف حالات اور اعتبارات سے لوگوں کی قسمیں

36	روزے کے ضروری احکام
36	وجوب نیت
36	روزے کا وقت
36	سحری ضرور کھائی جائے
38	روزہ کھولنے میں جلدی کرنا
38	روزہ کس چیز سے کھولا جائے
39	قبولیت دعا کا وقت
39	انظاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے
40	روزہ کھلانے کا ثواب
40	روزے دار کے لئے حسب ذیل چیزوں سے اجتناب ضروری ہے
40	جھوٹ سے
41	لغو اور رفث سے
41	لغو
41	رفث کا مطلب
43	روزے دار کے لئے کون کون سے کام جائز ہیں
47	کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
49	قضاء کے بعض مسائل
50	بے نمازی کا روزہ مقبول نہیں
51	قیام اللیل یعنی نماز تراویح کے بعض مسائل
56	صدقہ الفطر کے ضروری مسائل
58	رمضان المبارک میں کرنے والے کام
58	ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟

60	رمضان المبارک کے خصوصی اعمال و وظائف
60	روزہ
62	قیام اللیل
63	صدقہ و خیرات
64	روزے کھلوانا
65	کثرت تلاوت
65	تلاوت قرآن میں خوف و بکاء کی مطلوبیت
68	اعتکاف
69	اعتکاف کے ضروری مسائل
70	لیلہ - القدر کی تلاش
71	آخری عشرے میں نبی ﷺ کا معمول
72	لیلہ - القدر کی خصوصی دعا
72	رمضان المبارک میں عمرہ کرنا
73	کثرت دعا کی ضرورت
77	ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کی فضیلت
77	بددعا سے اجتناب کیا جائے
78	مظلوم کی آہ سے بچو
78	حق تلفیوں کا ازالہ اور گناہوں سے اجتناب کریں
79	اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک کریں

عرض ناشر

زیر کتاب، اس سے قبل دو کتابچوں کی صورت میں نہایت خوب صورت اور دیدہ زیب انداز میں شائع ہوئی تھی۔ جن کے نام بالترتیب حسب ذیل تھے۔

❁ رمضان المبارک، احکام و مسائل

❁ رمضان المبارک میں کرنے والے کام

الحمد للہ عوام و خواص نے ان کتابوں کو پسند کیا۔ اب فاضل مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ تعالیٰ نے دو حصوں کا مزید اضافہ فرمایا ہے۔

❁ روزوں کی فضیلت، احادیث صحیحہ کی روشنی میں

❁ روزے کے فوائد و ثمرات

اس مجموعے میں ان نئے دو حصوں کے ساتھ سابقہ دونوں کتابچوں کو شامل کر کے ان سب کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ کتاب گویا چار مضامین کا مجموعہ ہے جس میں رمضان المبارک سے متعلقہ تمام اہم چیزوں اور احکام و مسائل کا احاطہ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ مؤلف اور ناشرین کی اس سعی کو قبول فرمائے اور اسے عوام کی اصلاح و ہدایت کا سبب اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

عبدالمالک مجاہد

شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ - اکتوبر ۲۰۰۱ء

روزوں کی فضیلت

احادیث صحیحہ کی روشنی میں

رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے اس کی فضیلت متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے۔

۱) جیسے رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
 ۲) اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرہ: ۱۸۵/۲) جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو غار حراء میں بصورت ﴿إِقْرَأْ.....﴾ جبریل امین لے کر آئے، وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔

۳) اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (سورۃ القدر) ”شب قدر“ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ”ہزار مہینے کے ۸۳ سال ۴ مہینے بنتے ہیں عام طور پر انسانوں کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ۸۳ سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ:

«أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَتَّقِي بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَىٰ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ،

فَكَأَنَّهُ تَقَاصِرَ أَعْمَارِ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي
بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمُرِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ
مَنْ أَلْفِ شَهْرٍ (موطا إمام مالك، الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر
٣٢١/١، طبع مصر)

”انہوں نے بعض معتمد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ
سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی
امت کی عمریں ان سے کم ہیں اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے
رہ جائے گی، جن کو لمبی عمریں دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح
فرمادیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمادی۔“

﴿۴﴾ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور روزہ رکھنا بھی نماز،
زکوٰۃ اور حج و عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے۔ اور روزے کی فضیلت
متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا:

«إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ
جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» (صحیح البخاری، الصوم، ح: ۱۸۹۸،

۱۸۹۹ صحیح مسلم، الصیام، ح: ۱۰۷۹)

”جب رمضان آتا ہے تو آسمان (اور ایک روایت میں ہے جنت) کے دروازے
کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور (بڑے
بڑے) شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔“

«الْصَّوْمُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ» (صحیح الجامع،

ح: ۳۸۶۷)

”روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔“

ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

«الصَّوْمُ جَنَّةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ» (صحیح الجامع، ح: ۳۸۶۶)

”روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے (بچاؤ کی) ڈھال ہے۔“

ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ

سَبْعِينَ خَرِيفًا» (صحیح البخاری، الجہاد والسير، باب فضل الصوم فی سبیل اللہ، ح: ۲۸۴۰ و صحیح مسلم، الصیام، باب فضل الصیام فی سبیل اللہ

... ح: ۱۱۵۳)

”جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے

چہرے کو جہنم سے ستر سال (کی مسافت کے قریب) دور کر دیتا ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ،

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ

الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا

دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» (صحیح البخاری، الصوم،

باب الريان للصائمين، ح: ۱۸۹۶ و کتاب بدء الخلق، ح: ۳۲۵۷ و صحیح

مسلم، باب فضل الصیام، ح: ۱۱۵۲)

”جنت (کے آٹھ دروازوں میں سے) ایک دروازے کا نام ”رَيَّان“ ہے، جس

سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس

دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا، کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ

کھڑے ہو جائیں گے اور (جنت میں داخل ہوں گے) ان کے علاوہ کوئی اس

دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے، تو وہ دروازہ بند

کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، يَقُولُ الْقُرْآنُ، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيُشَفِّعَانِ»

(صحیح الجامع، بحوالہ مسند احمد، طبرانی کبیر، مستدرک حاکم و شعب
الایمان، ح: ۳۸۸۲، ۲/۷۲۰)

”روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے (پینے) سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا: میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب الصوم كفارة، ح: ۱۸۹۵ و صحیح مسلم، الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب... الخ، ح: ۱۴۴)

”آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں اس کے مال میں اور

اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔“

آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان کی فرط محبت کی وجہ سے غلط رویہ، یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تعلیم و تربیت

میں کوتاہی تو نہیں کرتا؟ مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کرتا، اسی طرح اسے خرچ کرنے میں اسراف سے یا بخل سے تو کام نہیں لیتا؟ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون اور دست و بازو بنتا ہے یا نہیں؟ ان ذمے داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (سورہ ہود: ۱۱۳) ”نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“ اس حدیث و آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہئے، تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (صحیح البخاری، الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، ح: ۱۹۰۴ و صحیح مسلم، الصيام، باب فضل الصيام، ح: ۱۱۵۱)

”روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دوسری خوشی) جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخَلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ» (صحیح البخاری، الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، ح: ۱۹۰۴ و صحیح مسلم، الصيام، باب فضل الصيام، ح: ۱۱۵۱)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔“

مُخْلَفٌ يَأْخُذُ بِرُؤْسِهِ أَسْبَابُ رُؤْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مخلفہ یا مخلوف، اس بو کو کہتے ہیں جو معدے کے خالی ہونے پر روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ بوعام حالات سے مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حدیث قدسی بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

«الْصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (صحیح البخاری، باب فضل الصوم، ح: ۱۸۹۴ و صحیح مسلم، باب ورقم مذکور)

”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

یعنی دیگر نیکیوں کیلئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ﴿الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا﴾ (حوالہ ہائے مذکور) نیکی کا صلہ کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا تک ملے گا۔ لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس عام ضابطے اور کلمے سے مستثنیٰ فرمادیا اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جزاء عطا فرمائے گا، جس کا علم صرف اسی کو ہے اور وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر خصوصی نوعیت کی ہوگی۔

یہ تمام احادیث، جو بیان ہوئیں، روزوں کی فضیلت میں عام ہیں۔ یعنی ہر قسم کے روزے ان کے ضمن میں آجاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے۔ مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے دار کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزے نہیں رکھتے، بلکہ وہ نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں ہر وقت نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ نبی ﷺ کا معمول مبارک تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ ہر مہینے کے ایام بیض (۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ) کا روزہ رکھتے، ماہ شعبان کے ایام اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے، علاوہ ازیں جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا، تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے، عاشورے (۱۰ محرم) کے دن

روزہ رکھتے، بلکہ زندگی کے آخری سال آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ محض دسویں محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس طرح نبی کریم ﷺ رمضان کے علاوہ وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی بغیر کچھ کھائے پئے مسلسل روزے رکھتے۔ جس سے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا۔

رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت | رسول اللہ ﷺ کا اور آپ کے اتباع میں صالحین و اتقیاء کا کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا یہ معمول اور عادت مبارکہ اسی لیے تھی کہ وہ روزوں کی وہ فضیلتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے جو پچھلے صفحات میں گزریں۔ جب نفلی روزوں کی فضیلتیں ہیں، تو رمضان کے روزوں کا جو اجر و صلہ ملنا ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا، جو کہ فرض ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے رمضان کے روزوں کی بابت فرمایا۔

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح البخاری، الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية، ح: ۱۹۰۱ و صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ح: ۷۶۰)

”جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (یعنی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں) تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنب الكبائر» (صحیح مسلم،

الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... الخ، ح: ۲۳۳)
 ”پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان
 گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب
 کیا جائے۔“

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ
 الدَّهْرِ» (صحیح مسلم، الصیام، باب استحباب صوم ستة أيام من
 شوال... الخ، ح: ۱۱۶۴)

”جس نے رمضان کے (فرضی) روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں چھ
 (نفلی) روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔“
 اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے اَلْحَسَنَةُ بَعَثَرِ امْثَالِهَا کے تحت
 ۳۰۰ اور چھ روزے ساٹھ روزوں کے برابر شمار ہوں گے اور قمری سال کے تین سو
 ساٹھ (۳۶۰) دن ہی ہوتے ہیں۔ یوں گویا ایک مسلمان صائم الدھر (ہمیشہ روزہ رکھنے
 والا) شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے شوال کے یہ چھ روزے، جن کو شش عیدی کہا جاتا
 ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان
 المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ چھ روزے بھی رکھ لینے چاہئیں، تاکہ وہ عند اللہ
 صائم الدھر شمار ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ
 وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ
 وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا
 بَاغِيَ الْخَيْرِ! اقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ

النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ» (جامع الترمذی، الصوم، باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، ح: ۶۸۲ وسنن ابن ماجہ، الصیام، باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، ح: ۱۶۴۲ وقال الترمذی، هذا حدیث غریب، وقال الألبانی وهو كما قال، وله شاهد فی المسند یتقوی به وهو الذی بعده، مشکوٰۃ للألبانی (۶۱۱/۱۰)

”جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے۔ اے نیکیوں کے طالب! خوب پیش قدمی کر! اور اے برائیوں کے طالب! باز آجا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر رات کو ایسا ہوتا ہے (یعنی رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔)“

اس روایت میں کچھ ضعف ہے، بقول البانی جو درج ذیل حدیث سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللَّهُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» (رواه أحمد والنسائي وقال الألبانی وهو حدیث جید لشواہدہ، مشکوٰۃ: ۶۱۲/۱)

”تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو ہزار

مہینے سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، وہ بڑا ہی حرام نصیب ہے۔“
ایک اور روایت میں ہے، رمضان کے شروع ہونے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومًا» (رواہ ابن ماجہ، الصیام، باب ما جاء فی فضل شهر رمضان،

ح: ۱۶۴۴ وقال الألبانی، إسناده حسن، حوالہ مذکور)

”یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا اور اس کی خیر سے بالکل محروم قسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔“

ان احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت و سعادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ وہ اقدامات فرماتا ہے جو مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئے۔ جن سے اس مہینے کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

رمضان کی فضیلت میں بعض ضعیف روایات | اس ماہ مبارک کی فضیلت میں بعض روایات بہت مشہور ہیں،

لیکن وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہئے، ہم تنبیہ کے طور پر انہیں بھی یہاں درج کرتے ہیں، تاکہ ضعیف روایات بھی لوگوں کے علم میں آجائیں، جنہیں خطیبان خوش بیان اور واعظان شیریں مقال اپنے وعظ و خطبات میں اکثر بیان کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

«حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ

فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُرَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نَقْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مِزْمَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوْلَاهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ حَقَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ

یہ روایت شعب الایمان بیہقی کے حوالے سے مشکوٰۃ میں درج ہے، مشکوٰۃ ایک نہایت متداول کتاب ہے جو تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور امام بیہقی کی شعب الایمان چند سال قبل تک غیر مطبوعہ مخطوطے کی شکل میں صرف بعض کتب خانوں میں محفوظ تھی۔ اس لیے عام اہل علم و تحقیق اس کی سند دیکھ کر اس کی صحت و ضعف کا حال معلوم کرنے سے قاصر تھے، اگرچہ بعض شارحین نے اس کی سند میں بعض راویوں کے ضعف کی صراحت کر کے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دیا ہے، جیسے علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں صراحت کی، حافظ ابن حجر نے بھی اپنے اطراف میں اس کی صراحت کی، اور بھی بعض محدثین نے اس کی صراحت کی۔ ان کے ان اقوال کو نتیج

الرواة اور پھر مرعاة المفاتیح میں بھی نقل کیا گیا ہے، جس سے اس روایت کا ضعف بالکل واضح ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا علم چند اہل علم و تحقیق تک ہی محدود رہا۔ عام علماء و واعظ حضرات اس حدیث کو بیان ہی کرتے رہے۔ اللہ بھلا کرے شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہ پھر انہوں نے بھی اپنی تعلیقات مشکوٰۃ میں اس کے ضعف کی صراحت کی۔ شیخ البانی کی تالیفات اور تحقیقات کو اللہ نے اہل علم و تحقیق کے حلقوں میں جو حسن قبول عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اس روایت کے ضعف کا علم عام ہوا، کیونکہ شیخ البانی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہونے والی مشکوٰۃ بھی اہل علم میں متداول ہے۔ مشکوٰۃ پر شیخ البانی کی مختصر تعلیقات و تحقیقات کا یہ بڑا فائدہ ہوا کہ مشکوٰۃ کی متعدد احادیث، جو ضعیف تھیں، اور لوگ انہیں بے دھڑک بیان کرتے تھے، اب ان کے ضعف سے اہل علم کی اکثریت واقف ہوتی جا رہی ہے۔ اور شیخ کی اس کاوش و تحقیق سے نقد حدیث کا ذوق بھی عام ہوا اور احادیث کی تحقیق و تخریج کے رجحان کو بھی بڑا فروغ ملا ہے۔ جزاہ اللہ عنا و عن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔

بہر حال مقصود اس تفصیل سے یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مذکورہ حدیث مشہور ہے، سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے۔ ایسی سخت ضعیف حدیث کا بیان کرنا صرف ناجائز ہی نہیں ہے، بلکہ اندیشہ ہے کہ اس کا بیان کرنے والا ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (صحیح بخاری، العلم، حدیث ۱۱۰) جیسی وعید کا مستحق نہ بن جائے۔

«مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» (ذکرہ البخاری تعلیقا، باب جامع فی رمضان - وأخرجه الأربعة)

”جس نے بغیر کسی عذر اور بیماری کے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ ساری

زندگی بھی اس کی قضاء دیتا رہے تو اس کی قضاء نہیں ہوگی۔“

② یہ روایت امام بخاری نے تعلقاً روایت کی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس روایت میں تین علتیں ہیں، ایک اضطراب، دوسری ابوالمطوس راوی کی جہالت اور تیسری یہ شک کہ ابوالمطوس کے باپ کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے یا نہیں؟ (تفصیل کے لیے دیکھئے فتح الباری، باب مذکور)

شیخ البانی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، چنانچہ انہوں نے اسے ضعیف ابی داؤد، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ اور ضعیف الجامع ہی میں نقل کیا ہے۔

③ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا، دوسری جگہوں کے مقابلے میں ہزار رمضان سے افضل ہیں۔ یہ دو روایات ہیں جو مجمع الزوائد میں ہیں اور دونوں ضعیف ہیں۔ (مجمع الزوائد، طبع جدید، بہ تحقیق عبداللہ محمد الدرویش، ج ۳، ص ۳۳۸، ۳۳۹)

④ نبی ﷺ کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، پیاس کی شدت سے وہ سخت نڈھال ہو گئیں، نبی ﷺ کو بتلایا گیا تو آپ خاموش رہے، پھر دوپہر کو دوبارہ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ مرنے لگی ہیں۔ آپ نے ان دونوں عورتوں کو بلوایا اور ایک بڑا پیالہ منگوایا اور باری باری دونوں سے کہا، اس پیالے میں قے کرو، تو دونوں نے خون اور پیپ کی قے کی، دونوں کی قے سے پیالہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں (کھانے پینے) سے تو روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ کھولتی رہیں۔ یہ آپس میں بیٹھی ہوئیں لوگوں کا گوشت کھاتی (یعنی غیبت کرتی) رہیں۔ (مجمع الزوائد، ۳/۳۹۹) روزے میں غیبت وغیرہ سے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔



روزے کے فوائد و ثمرات

روزہ- نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالانا، اس سے تعلق و رابطہ استوار کرنا اور اس کی رضاء حاصل کرنا ہے۔ ان عبادات سے کچھ دنیوی مفادات بھی حاصل ہو جائیں تو وہ ضمنی فوائد ہیں، اصل مقصد سے ان کا تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے چاہے اس کی علت یا حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی دنیوی فائدہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں ظاہری طور پر اس میں اپنے جان و مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو لیکن احکام الہی اور عبادات میں کوتاہی ہمارے لیے جائز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال یعنی سب کچھ قربان کر دینا ہی مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔

روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے کچھ طبی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے حکماء کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بسیار خوری سے اجتناب صحت کے لیے مفید ہے۔ روزے میں انسان بسیار خوری سے بچ جاتا ہے (بشرطیکہ وہ عام رواج کے برعکس ثقیل اور بھاری غذاؤں سے پرہیز کرے) تاہم یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، روزے کا اصل مقصد وہ روحانی اور قلبی فوائد ہیں جو روزوں کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنے کی صورت میں روزے داروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے چند روحانی فوائد و ثمرات حسب ذیل ہیں۔

① تقویٰ کا حصول اور تقویٰ کے ثمرات | روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان

فرمایا ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳/۲) ”تم پر روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا

ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“ کیونکہ روزہ بھی عبادت ہی ہے اور عبادت کا مقصد اور فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول ہی بتلایا ہے۔ (دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲/۲۱)

❁ یہ تقویٰ کیا ہے جو روزوں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟

❁ اور وہ روزے سے پیدا کس طرح ہوتا ہے؟

❁ اور تقویٰ سے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟

یہ تین سوال قابل غور ہیں۔

❁ تقویٰ کا مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اس طرح راسخ ہو جانا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے باز رہے، ہر قدم سوچ کر اٹھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر معاملے میں اس کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کرے، اسے بعض بزرگوں نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص ایسی تنگ گزرگاہ سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، تو وہ ایسی گزرگاہ سے کپڑے سنبھال کر اور دامن سمیٹ کر چلے گا تاکہ اس کا دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تقویٰ بھی اسی احتیاط اور معصیت سے دامن بچا کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔

❁ اور یہ تقویٰ روزے سے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی حلال امر ہے اور بیوی سے مباشرت بھی جائز کام ہے۔ لیکن ایک مومن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا جہاں اسے کوئی دیکھنے یا روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے جو روزے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔

جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے محض اس لیے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے اور کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ

باز رہتا ہے، تو گویا روزے نے اس کے اندر وہ تقویٰ پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشق کو اپنے احساس و شعور کا حصہ بنالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خوف قدم قدم پر اس کے دامن گیر رہ سکتا ہے اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رکا رہتا ہے تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایک مومن اور ایک متقی ان کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے؟

﴿۳﴾ ایک مومن کے اندر جب یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے حسب ذیل ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

تقویٰ کے ثمرات و فوائد: ﴿۱﴾ ایک مومن کی ایمانی قوت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا نقش اس کے دل میں مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی اطاعت و فرماں برداری میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا اور نافرمانی میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہے۔

﴿۲﴾ اس کے عقیدہ آخرت میں تازگی اور پختگی آ جاتی ہے۔ وہ روزے میں اپنی لذتیں قربان اور اپنی خواہشیں ترک کرتا ہے تو ایسا وہ اس یقین کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس سے زیادہ لذتوں والی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت اور حسن صلہ کا یہ تصور روزے کی مشکلات اور مشقتوں ہی کو اس کے لیے آسان نہیں کرتا بلکہ دین و شریعت کے ہر معاملے میں اس کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتیں۔

﴿۳﴾ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے میں ایک خاص وقت (صبح صادق کے ہو جانے) پر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے اور ایک

دوسرے وقت پر (سورج کے غروب ہوتے ہی) کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور دوسری جائز خواہشات بھی پوری کرنی چاہتا ہے تو کر لیتا ہے۔ تو شب و روز کے لمحات و اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرماں برداری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبودیت و بندگی اور اس کے سامنے سراقندگی و خود سپردگی کا جذبہ و شعور پیدا کرتی ہے کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں یا اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ اسی کا نام کمال عبودیت اور کمال بندگی ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔

﴿۳﴾ اور جب بندگی کا یہ شعور اور ہر لمحے اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کا یہ جذبہ عام ہو جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا اور پورا ماحول ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر کفر و شرک (یعنی غیروں کا رنگ) وہاں سے مٹ جاتا اور معصیت و نافرمانی کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف ”صِبْغَةُ اللَّهِ“ ہی کی جلوہ آرائی اور دین و شریعت ہی کی روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان میں دن کو سب مسلمان ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ گھر میں ہوں تب بھی، دفتر اور کارخانے میں ہوں تب بھی، سڑکوں اور بازاروں میں ہوں تب بھی، تنہا ہوں تب بھی، اور مجلس میں ہوں تب بھی، امیر ہوں تب بھی فقیر ہوں تب بھی، راعی و حکمراں ہوں تب بھی اور رعایا ہوں تب بھی۔ سب ایک ہی جذبے سے سرشار، سب پر ایک ہی کیفیت کا غلبہ اور سب ایک ہی آقا کے غلام اور ایک ہی حاکم کے محکوم نظر آتے ہیں۔ پورے معاشرے اور ماحول میں یہ یکسانیت کس نے پیدا کی؟ ایک ہی جذبہ و احساس کی کار فرمائی کیوں ممکن ہوئی؟ اور سب پر ایک ہی رنگ کا غلبہ کیوں اور کیسے ہوا؟

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی کامل بندگی و اطاعت کے جذبے سے ہوا جو رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور

اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے مسلسل روزوں کی مشق سے مسلمان معاشروں اور ملکوں میں ایسا ہی ماحول مستقل طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس میں نیکی غالب اور بدی مغلوب ہو، خیر کی کار فرمائی ہو اور شر کو رونمائی کا موقع نہ ملے، حق پر چلنے والے سرخرو ہوں اور باطل پر چلنے والے روسیہ۔

لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے تقویٰ کی ہم حفاظت کریں، اس جذبے اور شعور کو زندہ رکھیں جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس ایمانی پختگی کو قائم اور اس عقیدہ آخرت کو دل و دماغ میں ہر وقت مستحضر رکھیں جس سے روزے کی حالت میں ہم سرشار رہتے ہیں۔

لمحہ فکریہ اور دعوت غور و فکر: آج ہمارے معاشرے میں صورت حال اس کے برعکس ہے، نیکی مغلوب اور بدی غالب ہے۔ شر خوب پھل پھول رہا ہے اور خیر سکڑتا اور سمٹتا جا رہا ہے، حق کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں اور باطل قوتیں دندنا رہی ہیں، حتیٰ کہ نیکی کرنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور برائی کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر خوب دھڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سالہا سال سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور ہم اخلاق و کردار کی اتھاہ گھرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک محدود وقت کے دوران میں تو ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن محرمات ابدی سے اجتناب ضروری نہیں سمجھتے۔ گویا تقویٰ کی اصل حقیقت سے ہم محروم ہی رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزے سے ہماری ایمانی قوت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ عقیدہ آخرت کا صحیح استحضر ہی حاصل ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہمارے دلوں

میں راسخ ہوتا ہے۔

جب کہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان مستحکم، آخرت پر یقین مضبوط اور اللہ تعالیٰ کا خوف عنان گیر ہو۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ خود برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ اسی جذبہ و شعور کا نام ہے۔

آج ضرورت اسی شعوری ایمان اور حقیقی تقویٰ کی ہے جو برائی کی راہ میں سد سکندری بن جائے۔ معاشرے میں کھلم کھلا کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرأت نہ ہو اور لوگ معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی طرح شرم اور حجاب محسوس کریں جیسے رمضان المبارک میں سرعام کھانے پینے میں ایک روزہ خور بھی شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔

مذکورہ فوائد کے علاوہ روزے کے چند اور فوائد بھی ہیں۔ روزے دار کو کوشش کرنی چاہئے کہ روزے کے یہ سارے فائدے وہ حاصل کرے تاکہ یہ عبادت لاحاصل نہ رہے۔ یہ مزید فوائد حسب ذیل ہیں۔

② روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مددگار عمل ثابت ہوتا ہے

عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی۔ دوسرا شیطان کا وجود اور اس کا مکرو فریب۔

رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جس سے یقیناً نیکی کے رحمان میں اضافہ ہوتا اور خدا خونی کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ خیر کے اس اضافے اور نیکی کے ماحول سے انسان اگر پورا فائدہ اٹھائے، تو اس سے یقیناً اس کے مزاج و کردار کا وہ فساد دور ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک کے گزرتے ہی دوبارہ لوٹ آتا ہے اور رمضان کی مشق و تربیت کو کالعدم کر دیتا ہے۔

روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بھی بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے نوجوانوں کو بطور خاص فرمایا تھا، کیونکہ نوجوانی میں نفس زیادہ زور آور ہوتا ہے۔

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (صحیح البخاری، النکاح، باب ۲، ح: ۵۰۶۵ و صحیح
مسلم، النکاح، باب ۱، ح: ۱۴۰۰)

”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ (شادی) نگاہوں کو پست رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑے رکھے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے روزہ ممدومعاون ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ نے روزے کو ایک نفع بخش عمل قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مُرِّنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، قَالَ:
عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ» (سنن النسائي، الصيام، باب فضل
الصيام، ح: ۲۲۲۳)

”میں نے کہا، اللہ کے رسول! مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا، روزے رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔“

③ روزے سے صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے | صبر بھی ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی

تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں۔ صبر کا وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے اور باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

صبر کے مفہوم میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں۔

① اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اس کی معصیت سے بچنا۔

② اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا۔

③ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور لوگوں کی لعنت ملامت کی پروا نہ کرنا۔

روزے میں انسان اپنے نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، جس سے اس کے اندر صبر کا وصف راسخ ہوتا اور مذکورہ خوبیوں کا انعکاس ہوتا ہے۔

④ روزے سے اخوت و ہمدردی کا احساس اجاگر ہوتا ہے

روزے میں
انسان بھوکا پیاسا

رہتا ہے، تو اسے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں گزرتی ہے، اس لیے کہ مومنوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے۔

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (صحیح مسلم، البر والصلة، باب تراحم المؤمنین

... الخ، ۲۵۸۶)

”آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ

رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

ایک دوسری روایت میں فرمایا۔

«الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ» (حوالہ مذکور)

”سب مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے تب بھی سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔“

اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی کیفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل طور پر فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان سے بھائی چارگی کا اظہار کرتا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔

⑤ روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے | نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الصَّيَّامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»

(صحیح البخاری، الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم، ح: ۱۹۰۴)

”روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں کرے نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ

دے، بھی! میں تو روزے دار ہوں۔“

اس حدیث میں روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے، کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے، شور و شغب اور دل لگی کی باتوں سے، حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے دے تو کہہ دیا جائے، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، عفو و درگزر سے دوں گا۔ یہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہئے۔

روزے داروں کے لیے وعید: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» (رواہ الدارمی، مشکوٰۃ، الصوم، باب تنزیہ الصوم، ح: ۲۰۱۴، وقال الألبانی إسناده جيد)

”کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی شب بے دار ہیں، جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

یہ کون سے بدنصیب روزے دار ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف تو برداشت کی ہوگی، لیکن روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر روزے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ اخلاق و کردار کی بلندی اور نہ دیگر فوائد و ثمرات ہی انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔



احکام و مسائل

اس باب میں روزے سے متعلق ضروری احکام و مسائل بیان کئے گئے ہیں، مثلاً روزے کے واجبات و آداب کیا ہیں؟ رمضان المبارک میں کون سی دعائیں مسنون ہیں؟ اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ وغیرہ، مختصراً ان باتوں کا ذکر ہو گا۔ وبالله التوفیق۔

روزے کی اہمیت | روزے کی اہمیت تو اسی سے واضح ہے کہ یہ اسلام کے پانچ

ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (صحیح البخاری، الإیمان، باب (۱)، ح: ۸)

وصحیح مسلم، الإیمان، باب بیان أركان الإسلام... الخ، ح: ۱۶)

”اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں ① اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ② نماز قائم کرنا ③ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ④ بیت اللہ کا حج کرنا (اگر استطاعت حاصل ہو جائے) ⑤ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

روزے کا وجوب | رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کی بابت فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة ۲/۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر (رمضان المبارک کے) روزے رکھنا فرض کئے گئے

ہیں۔“

اور فرض کا انکار کفر و ارتداد ہے۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت واضح ہے۔

روزے کی تعریف صوم کے لغوی معنی تو رک جانے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جس میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مفطرات سے، طلوع فجر سے غروب شمس تک۔ زکا رہتا ہے۔ مفطرات کے معنی ہیں، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں۔ جیسے کھانا، پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنے کا نام روزہ ہے۔

روزے کا مقصد اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا وہ مقصد واضح ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳) کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کا مطلب ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اس طرح جاگزیں ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ حلال ہے یا حرام؟ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا یا ناراض؟

روزے سے یہ تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں گھر کی چار دیواری کے اندر بھی، جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مؤاخذہ کرنے والا، کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، کیوں؟ محض اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اسے روک دیا ہے۔ تو پورے ایک مہینے کی تربیت سے۔ بشرطیکہ انسان خلوص دل اور کامل اذعان اور شعور سے کوشش کرے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف راسخ ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے کہ جب

روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی میں اجتناب کرتا رہا ہوں، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے حرام قرار دی ہوئی ہیں، ان کا ارتکاب میرے لئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی واے کام کیوں کروں؟ (جیسا کہ اس کی کچھ تفصیل اس سے پہلے -- فوائد و ثمرات -- کے باب میں گزر چکی ہے۔)



مختلف حالات اور اعتبارات سے لوگوں کی قسمیں

- ① روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔
- ② نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں۔ تاہم ان کی طاقت کے مطابق ان سے روزے رکھوائے جائیں، تاکہ ایک تو وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ دوسرے، ان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا ان کے لئے ضروری ہو گا۔ جیسے حکم ہے کہ سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اور دس سال کی عمر میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھوائی جائے۔ اس کا مقصد بھی نماز کی اہمیت و فرضیت کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔
- ③ مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو تو وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ تاہم روزوں کی قضاء بعد میں ضروری ہے۔
- ④ یہی حکم ان عورتوں کے لئے ہے جو حمل سے ہوں یا ان کی گود میں شیرخوار بچہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے میں وہ تکلیف محسوس کریں یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر اس قسم کی ہدایت دے۔ تو حاملہ اور مرضعہ عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء ضروری ہے۔
- ⑤ عورتوں کو حیض اور نفاس کے ایام میں روزے رکھنا ممنوع ہیں۔ حیض کا مطلب، ماہواری ہے اور نفاس کا مطلب، زچگی (ولادت) کے ایام ہیں۔ جب تک ولادت کا خون بند نہ ہو جائے، نفاس کی حالت شمار ہوگی، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اور کم سے کم کا کوئی تعین نہیں۔ جب بھی خون بند ہو جائے، وہ پاک

سمجھی جائیں گی اور غسل طہارت کے بعد ان کے لئے نماز اور روزے کا اہتمام (اگر ماہ رمضان ہو) ضروری ہوگا۔ حیض اور نفاس کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء ضروری ہے۔

⑥ جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہو جس کی صحت یا بلی کی امید نہ ہو یا بہت بوڑھا آدمی جس کی طاقت و توانائی ختم ہو چکی ہو۔ یہ دونوں چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے اس لئے یہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ ان کے لئے اطعام مسکین کا فدیہ روزہ رکھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔

⑦ مجنون (پاگل) یا وہ شخص جس کے ہوش و حواس مختل ہو جائیں اور اس کے اندر کسی چیز کی تمیز کرنے کا شعور باقی نہ رہے، اسی طرح زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی عقل ماؤف ہو جائے اور وہ بھی ہوش و تمیز سے عاری ہو جائے۔ ظاہرات ہے کہ یہ تینوں قسم کے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ فدیہ، اطعام مسکین کے بھی مکلف نہیں ہیں۔

⑧ کسی شخص کو کوئی اضطراری حالت لاحق ہو جائے۔ جیسے کسی ڈوبتے شخص کو بچانے کے لئے دریا یا سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت پیش آجائے۔ یا جلتی آگ میں سے انسانوں کو باہر نکلنے کا کام کرنا پڑ جائے۔ اس قسم کی اضطراری حالت میں روزہ توڑے بغیر کچھ کرنا مشکل ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ لیکن بعد میں اس کی قضاء ضروری ہے۔

⑨ مسافر، سفر میں دقت محسوس کرے، تو اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کی قضاء بعد میں ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمیشہ ہی سفر پر رہتے ہوں۔ جیسے بسوں، ریلوں وغیرہ کے ڈرائیور۔ یا بسلسلہ ملازمت ایک شہر سے دوسرے شہر میں روزانہ سفر کرنے والے حضرات۔ ان کے لئے بھی اگرچہ روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن روزوں کی قضاء ان کے لئے بھی ضروری ہے۔ اس لئے سفر عارضی ہو یا دائمی، روزہ

رکھنے یا نہ رکھنے کی تو رخصت اور اجازت ہے۔ لیکن ان کے لئے روزوں کی معافی نہیں ہے۔ ان کے لئے رمضان کے روزے پورے کرنے ضروری ہیں۔ اگر سفر کی وجہ سے رمضان میں نہیں رکھیں گے تو رمضان کے بعد قضاء ضروری ہے۔



روزے کے ضروری احکام

1] وجوب نیت | فرض روزوں کے لئے رات کو طلوع فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (سنن ابی داؤد، الصیام، باب النیة فی الصوم، ح: ۲۴۵۴)

”جس نے فجر سے پہلے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں۔“

رمضان المبارک میں رات کو ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ اس نے صبح روزہ رکھنا ہے، علاوہ ازیں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس نے سحری بھی کھانی ہوتی ہے، اور سحری کا وقت بھی رات ہی میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے نیت تو بہر حال ہوتی ہی ہے، کیونکہ نیت کا محل، دل ہے نہ کہ زبان۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کے کوئی الفاظ نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہیں اور یہ جو عام کیلنڈروں میں روزے کی نیت کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں: (وبصوم غد نوبت من شہر رمضان) بالکل بے اصل ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لئے ان الفاظ کا پڑھنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ نبی ﷺ سے ثابت ہی نہیں ہیں۔

2] روزے کا وقت | طلوع فجر سے غروب شمس تک ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کھالی جائے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک تمام منفطرات سے اجتناب کیا جائے۔

3] سحری ضرور کھائی جائے | بعض لوگ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے اور رات ہی کو کھاپی کر سوجاتے ہیں یا آدھی رات کو کھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحْرِ»

(صحیح مسلم، الصیام، باب فضل السحور... ح: ۱۰۹۶)

”ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔“

یعنی اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اس لئے سحری ضرور کھانی چاہیے۔ چاہے ایک کھجور یا چند گھونٹ پانی ہی ہو۔ اس میں برکت بھی ہے اور جسمانی قوت کا ذریعہ بھی اور یہ دونوں چیزیں روزہ نبھانے کے لئے ضروری ہیں۔ اسی لئے نبی ﷺ نے سحری کو عدائے مبارک سے تعبیر فرمایا ہے۔

(سنن ابی داؤد۔ الصیام، باب من سَمِيَ السَّحُورُ الْغَدَاءُ، حدیث: ۲۳۲۳)

ایک اور حدیث میں فرمایا:

«السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً

مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

الْمُتَسَحِّرِينَ» (الفتح الربانی: ۱۰/۱۶)

”سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لئے اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ کیونکہ اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا معمول اور طریقہ مبارک یہ تھا کہ سحری فجر سے تھوڑی دیر پہلے بالکل آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ روزے داروں کے لئے اس طریق نبوی کو اپنانے میں بڑے فائدے ہیں۔ مثلاً فجر کی نماز میں سستی نہیں ہوتی۔ سحری سے فراغت کے فوراً بعد نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ انسان آسانی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اور روزے کی ابتداء اور انتہاء کے درمیان وقفہ کم ہو جاتا ہے جس سے

روزے دار کو سولت مل جاتی ہے، وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”صوم وصال“ یعنی بغیر کچھ کھائے پئے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری، الصیام، باب الوصال، ح: ۱۹۶۲ و مسلم، باب النهی عن الوصال، ح: ۱۱۰۴)

4] روزہ کھولنے میں جلدی کرنا | نبی کریم ﷺ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جلدی کی جائے۔ جلدی کا مطلب، سورج کے غروب ہونے سے قبل روزہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بلا تاخیر فوراً روزہ کھولنا ہے۔ جیسے بعض لوگ سورج غروب ہونے کے بعد اتنا اندھیرا چھا جانے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ تارے نظر آنے لگ جائیں۔ نبی ﷺ کے زمانے میں یہود و نصاریٰ کا یہی معمول تھا۔ اس لئے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہود و نصاریٰ کے برعکس سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کرو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (صحیح البخاری، الصوم، باب تعجيل الإفطار، ح: ۱۹۵۷ و مسلم، الصیام، باب فضل السحور، ح: ۱۰۹۸)

”لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔“

5] روزہ کس چیز سے کھولا جائے | حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» (سنن أبي داود، الصیام، باب ما يفطر عليه،

ح: ۲۳۵۶

”رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو چھواروں سے روزہ کھولتے۔ اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے۔“

ہمارا معمول اس نبوی معمول سے کتنا مختلف ہے۔ ہمارے ہاں افطاری کے وقت انواع و اقسام کے پھل فروٹ کے علاوہ چٹ پٹی اور مصالحو دار چیزوں کی بھی فراوانی ہوتی ہے، جس سے معدے میں گرانی ہو جاتی ہے جو صحت کے لئے سخت مضر ہے۔ ہمیں بھی ان تکلفات کی بجائے سادگی ہی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی میں اخروی اجر و ثواب بھی ہے اور دنیوی فائدہ بھی۔

6] قبولیت دعا کا وقت | سارا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنی جنسی خواہش پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے افطاری کے وقت قبولیت دعا کا بھی بہت امکان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ مَا تُرَدُّ» (سنن ابن ماجہ، الصیام،

باب فی الصائم لا ترد دعوتہ، ح: ۱۷۵۳)

”افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔“

7] افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے | اس سلسلے میں ایک دعا یہ مشہور ہے۔ «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى

رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» لیکن یہ مرسل روایت ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف شمار ہوتی ہے۔ ایک دوسری دعا ہے جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوتی ہے۔ «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»

یہ دعا بالکل بے سند اور بے اصل ہے۔ ایک تیسری دعا ہے جو نبی ﷺ افطاری کے وقت پڑھتے تھے:

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ وَوَبَّتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» (سنن

أبي داود، الصيام، باب القول عند الإفطار، ح: ۲۳۵۷)

”پاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔“

اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ (مشکوٰۃ، للالبانی، ۱/۳۶۱) اس لئے بہتر ہے کہ افطاری کے وقت یہی دعا پڑھی جائے۔ اگرچہ شیخ البانی نے دوسری مرسل روایت کو بھی شواہد کی بنا پر قابل قبول قرار دیا ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء شیخ البانی کی اس رائے سے متفق نہیں اور وہ اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

8] روزہ کھلوانے کا ثواب | نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» (شرح السنة،

باب ثواب من فطر صائما، ح: ۱۸۱۹ وشعب الإيمان، الصيام، فضل فيمن

فطر صائما، ح: ۳۹۵۳)

”جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلویا، یا کسی غازی کو تیار کیا، تو اس کے لئے

بھی اس کے برابر اجر ہے۔“

روزہ کھلوانے کا یہ اجر ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق حاصل کر سکتا ہے، اس کے لئے پر تکلف دعوت کی ضرورت نہیں۔

9] روزے دار کے لئے حسب ذیل چیزوں سے اجتناب ضروری ہے

جھوٹ سے: جیسے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لَهِ حَاجَةٌ فِي

أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب من لم يدع

قول الزور والعمل به في الصوم، ح: ۱۹۰۳)

”جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ عزوجل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔

﴿ لغو اور رَفَث سے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»

(صحیح ابن خزیمہ ۲/۲۴۲، ح: ۱۹۹۶ - مط - المکتب الإسلامی)

”روزہ صرف کھانا پینا (چھوڑنے کا) نام نہیں ہے۔ روزہ تو لغو اور رَفَث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لئے اگر تجھ کو کوئی سب و شتم کرے یا تیرے ساتھ جمالت سے پیش آئے، تو تو کہہ دے، میں تو بھی روزے دار ہوں۔“

﴿ لغو: ہر بے فائدہ اور بے ہودہ کام کو کہتے ہیں۔ جیسے ریڈیو اور ٹی وی کے لچر اور بے ہودہ پروگراموں کا سننا اور دیکھنا ہے۔ تاش، شطرنج اور اس قسم کے دیگر کھیل ہیں۔ فحش ناول، افسانے اور ڈرامے ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ خوش گپیاں، چغلیاں، بے ہودہ مذاق اور دیگر ناشائستہ حرکتیں ہیں۔

﴿ رَفَث کا مطلب: جنسی خواہشات پر مبنی باتیں اور حرکتیں ہیں۔ یہ لغو و رَفَث روزے کی حالت میں بالخصوص ممنوع ہیں۔ اس لئے تمام مذکورہ باتوں اور حرکتوں سے اجتناب کیا جائے۔

اسی طرح کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کر کے اشتعال دلائے۔ تو روزے دار اس جمالت کے مقابلے میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے اور دوسرے فریق کو بھی اپنے عمل سے یہ وعظ و نصیحت کرے کہ روزے کی حالت میں

بالخصوص جدال و قتال سے بچنا اور قوت برداشت سے کام لینا چاہئے۔
 جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب کا مطلب ہے کہ روزے میں نہ
 جھوٹی بات کرے نہ دجل و فریب پر مبنی کوئی حرکت۔ جیسے دکان میں بیٹھ کر گاہکوں
 سے جھوٹ بولے یا ان کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرے، جیسا کہ بد قسمتی
 سے بے شمار دکاندار ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہر وقت ہی ممنوع
 ہیں۔ لیکن روزہ رکھ کر ان حرکتوں کا ارتکاب تو بہت بڑی جسارت اور غفلت شعاری
 کا عجیب مظاہرہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمُّ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ
 لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» (مسند أحمد: ۴۴۱/۲ وسنن الدارمی،
 الرقاق، باب فی المحافظة علی الصوم، ح: ۲۷۱۶ وقال الألبانی إسناده
 جيد، مشکوٰۃ للألبانی: ۱/۶۲۶)

”کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں
 ملتا اور کتنے ہی شب بیدار ہیں، جن کو بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ
 حاصل نہیں ہوتا“



روزے دار کے لئے کون کون سے کام جائز ہیں

① حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ تاہم نماز کے لئے غسل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُذْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنْبٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب الصائم یصبح جنبا، ح: ۱۹۲۶ و صحیح مسلم، الصیام، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب، ح: ۱۱۰۹)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (بعض دفعہ) اس طرح فجر ہوتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے (اسی حالت میں آپ سحری کھا لیتے) اور پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔“

② روزے دار مسواک کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (صحیح البخاری، الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، ح: ۸۸۷ و صحیح مسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ۲۵۲)

”اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے جس میں روزے دار اور غیر روزے دار دونوں شامل ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں مسواک کرنا صحیح نہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے اور روزے دار کو مسواک کرنے سے منع فرما دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے دار زوال سے پہلے مسواک کر لیا کرے، لیکن زوال کے

بعد نہ کرے۔ لیکن یہ بے اصل بات ہے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی تاکید ہے اور اس سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے روزے دار ہر وقت مسواک کر سکتا ہے اور مسواک ہی کی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے۔

③ روزے دار کلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے۔ تاہم روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط سے کام لے اور اس میں مبالغہ نہ کرے۔ جب کہ عام حالات میں اس میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (سنن أبي داود، باب

الصائم يصب عليه الماء من العطش... الخ، ح: ۲۳۶۶)

”اور ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈال، مگر جب کہ تو روزے دار ہو۔“

یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا تو جائز ہے، کہ وہ وضو کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی سانس کھینچ کر پانی ناک کے اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب کہ روزے کی علاوہ عام حالات میں ایسا کرنے کا حکم ہے۔

④ روزے دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے مباشرت کرنا (معانقہ کرنا

اور بغل گیر ہونا) جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيَبَاسِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ

أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ» (صحیح البخاری، الصوم، باب المباشرة للصائم، ح: ۱۹۲۷ و صحیح مسلم، الصیام، باب بیان أن القبلة في الصوم ليست

محرمة على من لم تحرك شهوته، ح: ۱۱۰۶)

”نبی کریم ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور مباشرت (یعنی معانقہ) کر لیا کرتے تھے لیکن آپ اپنی حاجت پوری کرنے میں بہت زیادہ

قدرت رکھنے والے تھے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر بڑا کنٹرول تھا۔ اس لئے بیوی سے بوس و کنار کرتے وقت آپ سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ جذبات محبت میں بے قابو ہو کر اس سے تجاوز کر جائیں گے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار اگرچہ جائز ہے۔ لیکن یہ جائز کام صرف وہی شخص کرے جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ بصورت دیگر اس سے باز رہے۔ اس بات کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نوجوان آدمی کے لئے بیوی سے بوس و کنار کرنا مکروہ ہے اور عمر رسیدہ شخص کے لئے غیر مکروہ۔ کیونکہ نوجوان سے تجاوز کا خطرہ ہے، بوڑھے آدمی سے تجاوز کا خطرہ نہیں۔ بوس و کنار کی وجہ سے مذی نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا (فقہ السنۃ، سید سابق مصری مرحوم)

⑤ روزے کی حالت میں ایسا نیکہ لگوانا جائز ہے، جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو۔ بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو۔ علاج کے لئے نیکہ بیرونی دوائی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ معدے میں جاتا ہے نہ اس سے کوئی خوراک ہی حاصل ہوتی ہے۔

⑥ اسی طرح روزے کی حالت میں سیگی لگوائی جاسکتی ہے۔ یعنی فصد کے ذریعے سے گندا خون نکلویا جاسکتا ہے۔ دانت نکلویا جاسکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سیگی لگوائی ہے۔ (صحیح بخاری، الصوم باب الحجامة والقیء للصائم)

حدیث: ۱۹۳۸-۱۹۳۹

⑦ آنکھوں میں سرمہ لگانا اور کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا جائز ہے۔ چاہے اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو۔ لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«وَلَمْ يَزَّ أَنْسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُخْلِ لِلصَّائِمِ بِأَسَا»

(صحیح البخاری، الصوم، باب اغتسال الصائم)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کے نزدیک روزے

دار کے لئے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

⑧ روزے دار کھانا چکھ سکتا ہے، بشرطیکہ حلق میں نہ جائے۔ اسی طرح دانتوں

میں دوائی ملی جاسکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَّطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ» (صحیح البخاری، کتاب

ویاب مذکور)

”روزے دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے، تو کوئی حرج نہیں۔“



کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

❶ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول چوک یا جبر سے کوئی اس کو کچھ کھلا دے، تو روزہ برقرار رہے گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْسَ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ح: ۱۹۳۳ و صحیح مسلم، الصیام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ح: ۱۱۵۵)

”جب کوئی بھول کر کھاپی لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کر لے (اس کو توڑے نہیں) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔“

حتیٰ کہ بھول کر بیوی سے ہم بستری بھی کر لے گا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (حوالہ ہائے مذکور)

❷ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ طبیعت کی خرابی سے خود بخود قے آجائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» (سنن ابی داؤد، الصیام، باب الصائم یستقیء عامداً، ح: ۲۳۸۰)

”جس کو خود قے آگئی (اس کا روزہ برقرار ہے) اس پر قضاء نہیں اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ قضاء دے۔“

❸ بیوی سے ہم بستری کرے گا تو نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کو اس کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور وہ کفارہ ہے۔ ایک گردن آزاد کرنا، یا بلانغمہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

(صحیح بخاری، الصوم، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن ح: ۱۹۳۶)

جو شخص عمداً کھاپی کر روزہ توڑ لے، اس کا کفارہ بھی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ اس کی بابت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ صورت پر قیاس کر کے اس کے لیے بھی مذکورہ کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن دوسرے علماء کے نزدیک اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا اور توبہ و استغفار کر لینا کافی ہے۔ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

۴ گلوکوز یا خون یا کوئی اور غذائی مواد کسی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ اس کا مقصد پیٹ کے اندر چیز کا پہنچانا ہے، جو مفطر صوم ہے۔

۵ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چاہے کسی وقت بھی اس کا آغاز ہو۔

۶ حالت بیداری میں استمناء بالید (مشت زنی) یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے سے یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے منی کا انزال ہو جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تاہم احتلام (یعنی خواب میں منی خارج ہو جانے) سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ غیر اختیاری فعل ہے۔ جب کہ پہلی صورتیں اختیاری ہیں۔

۷ نکسیر پھوٹ جائے یا کسی اور وجہ سے خون بہ جائے، تو اسکی کمی کو دور کرنے کیلئے خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گویا جسم سے خون کا نکلنا مفسد صوم نہیں، البتہ خون چڑھانا مفسد صوم ہے۔



قضاء کے بعض مسائل

① جو روزے بیماری، سفریا حیض و نفاس کی وجہ سے رہ جائیں۔ رمضان کے بعد بلاتاخیر جلد سے جلد رکھنے چاہئیں۔ تاہم ان کے لئے تواتر ضروری نہیں یعنی وقفے وقفے سے بھی وہ پورے کئے جاسکتے ہیں۔

② جس طرح کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ فرض نمازیں ہوں۔ تو ان کی ادائیگی ضروری نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص زندگی میں روزہ رکھنے کی قوت سے محروم ہو جائے، تو اس کی طرف سے زندگی ہی میں اس کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلانا تو ضروری ہے۔ (جیسا کہ پہلے گزرا) تاہم اس کی طرف سے روزوں کی قضاء ضروری نہیں۔

③ البتہ کسی کے ذمے نذر کے روزے ہوں اور وہ زندگی میں نہ رکھ سکا ہو، تو ان کی قضاء و رثاء کے لئے ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَوَلِيَّتُهُ» (صحیح البخاری،

الصوم، باب من مات وعليه صوم، ح: ۱۹۵۲ و صحیح مسلم، الصيام، باب

قضاء الصيام عن الميت، ح: ۱۱۴۷)

”جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔“

اس حدیث میں فوت شدہ شخص کے ذمے رہ جانے والے روزوں کی قضائی کا جو حکم ہے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کا تعلق نذر کے روزوں سے ہے نہ کہ رمضان کے روزوں سے۔ تاہم بعض علماء نے اس میں دو قسم کے افراد کو اور شامل کیا ہے۔ ایک وہ بیمار جس کو رمضان کے بعد بجاالت صحت روزوں کی قضاء

کا موقع ملا، لیکن اس نے تساہل سے کام لیا اور روزے نہ رکھے، حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص، جس کے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے، رمضان کے بعد اسے روزے رکھنے کا موقع ملا، لیکن اس نے بھی تساہل کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ ان دونوں کے ذمے بھی فرض روزے رہ گئے جن کی ادائیگی ان کے ورثاء کی ذمے داری ہے۔

بے نمازی کا روزہ مقبول نہیں | آج مسلمانوں میں نماز جیسے اہم فریضے سے غفلت عام ہے۔ حالانکہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس سے کفر و اسلام کے درمیان فرق و امتیاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (مسند احمد: ۳۴۶/۵ وجامع الترمذی، الإیمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ح: ۲۶۲۱)

”وہ عہد جو ہمارے (مسلمانوں) اور کافروں کے درمیان ہے، وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔“

گویا نماز دین کا وہ ستون ہے جس پر دین اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان اتنی شدید غفلت میں مبتلا ہیں کہ بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھئے! اس طرح روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب بے نماز پر کفر تک کا حکم لگایا گیا ہے، تو کفر کے ساتھ روزہ رکھنے کا کیا مطلب؟ کافر کا تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں۔ پھر بے نمازی کا روزہ کیوں کر قبول ہوگا؟



قیام اللیل یعنی نماز تراویح کے بعض مسائل

① نبی کریم ﷺ ہمیشہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن ایک رمضان میں آپ نے تہجد کی یہ نماز تین دن باجماعت ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی نہایت ذوق و شوق کے ساتھ تین دن یہ نماز پڑھی۔ چوتھے دن بھی صحابہ قیام اللیل کے لئے آپ کے منتظر رہے۔ لیکن آپ حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں رمضان المبارک میں یہ قیام اللیل تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ اس لئے اس کے بعد یہ قیام اللیل بطور نفلی نماز کے انفرادی طور پر ہوتا رہا۔ نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے عہد میں یہی معمول رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں اس قیام اللیل کا باجماعت اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر دوبارہ اس سنت کا احیاء عمل میں آیا جسے رسول اللہ ﷺ نے خواہش کے باوجود فرض ہو جانے کے خوف سے چھوڑ دیا تھا۔

② اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیام اللیل فرض یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت نفلی نماز کی ہے۔

③ یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد رسالت و عہد صحابہ میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا یعنی تہجد کی نماز۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے آخری پہر۔ طلوع فجر تک ہے۔ اس وقت کے دوران کسی بھی وقت اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

❶ وقت کی اسی وسعت اور گنجائش کی وجہ سے اس نماز تہجد کو رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ کم از کم رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگ قیام اللیل کی فضیلت حاصل کر سکیں اور اسی وجہ سے اس کی جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ فرداً فرداً ہر شخص کے لئے اس کا پڑھنا مشکل ہے۔

❷ بعد میں اس قیام اللیل کو تراویح کا نام دے دیا گیا اور اسے رمضان کی مخصوص نماز سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ یہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے نہ یہ رمضان کی کوئی مخصوص نماز ہی ہے۔ یہ قیام اللیل یا نماز تہجد ہی ہے جس کا پڑھنا سارا سال ہمیشہ ہی مستحب اور اہل صلاح و تقویٰ کا معمول رہا ہے۔ اس لئے اسے اول وقت میں اور باجماعت پڑھنے یا نیا نام رکھنے کی وجہ سے تہجد سے مختلف نماز سمجھنا بالکل بے اصل اور بلا دلیل بات ہے۔

❸ رسول اللہ ﷺ کا قیام اللیل یا نماز تہجد میں کتنی رکعت پڑھنے کا معمول تھا؟ اسکی وضاحت صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ وہ وتر کے علاوہ آٹھ رکعت اور وتر سمیت گیارہ رکعت ہے:

«مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً» (صحیح البخاری، التہجد، باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ، ح: ۱۱۴۷ و صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی ﷺ فی اللیل... الخ، ح: ۷۳۹)

”رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ وضاحت ابو سلمہ کے اس سوال پر فرمائی تھی کہ نبی ﷺ کی رمضان میں (رات کی نماز) کس طرح ہوتی تھی؟ اس سوال کے جواب میں

جو کہا گیا کہ گیارہ رکعت ہی آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ جو غیر رمضان میں آپ کی تہجد کی نماز ہوتی تھی، وہی رمضان میں آپ کی تراویح ہوتی تھی۔

نبی اکرم ﷺ نے تین راتیں جو باجماعت قیام اللیل فرمایا، ان میں بھی آپ نے آٹھ رکعات اور تین وتر ہی پڑھائے۔ («قیام اللیل، للمروزی، اول کتاب قیام رمضان، ص ۱۵۵ المكتبة الاثرية، سانگھل»)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو باجماعت تراویح پڑھانے کا جو حکم دیا، وہ بھی گیارہ رکعتوں ہی کا تھا جو صحیح سند سے ثابت ہے۔
(موطا امام مالک، باب ماجاء فی قیام رمضان، ۱/ ۱۱۵ طبع بیروت)

﴿۷﴾ رمضان کے قیام اللیل یا تراویح میں ۲۰ رکعتوں کا معمول سنت نبوی کے خلاف ہے اور اس کے ثبوت میں جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ سب ضعیف ہیں۔ جس کا اعتراف علماء احناف کو بھی ہے۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو:

﴿۸﴾ (موطا امام محمد، باب قیام شہر رمضان، ص ۱۳۸، طبع مصطفائی ۱۳۹۷ھ۔)

﴿۹﴾ نصب الراية، علامہ زبعلی حنفی، ۲/ ۱۵۳۔ طبع المجلس العلمی، دابھیل، سورت، بھارت۔

﴿۱۰﴾ مرقاة المفاتیح، ملا علی قاری حنفی، ۳/ ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، مکتبہ امدادیہ ملتان۔

﴿۱۱﴾ عمدة القاری شرح صحیح البخاری، علامہ بدرالدین عینی حنفی، ۷/ ۷۷، ۷۸۔ طبع منیریہ، مصر۔

﴿۱۲﴾ امام ابن ہمام حنفی فتح القدیر، شرح ہدایہ، ۱/ ۳۳۳۔

﴿۱۳﴾ حاشیہ صحیح بخاری، مولانا احمد علی سہارنپوری، ۱/ ۱۵۳۔

﴿۱۴﴾ امام ابن نجیم حنفی، البحر الرائق، ۲/ ۷۲۔

﴿۱۵﴾ علامہ طحطاوی حنفی، حاشیہ درمختار، ۱/ ۲۹۵۔

- ❁ ردالمحتار (فتاویٰ شامی) علامہ ابن عابدین حنفی ۱/۳۹۵۔
 - ❁ سید احمد حموی حنفی 'حاشیہ الاشباہ' ص ۹۔
 - ❁ علامہ ابوالسعود حنفی 'شرح کنزالدقائق' ص ۲۶۵۔
 - ❁ حاشیہ کنزالدقائق 'مولانا محمد احسن نانوتوی' ص ۳۶۔
 - ❁ مراقی الفلاح 'شرح نور الایضاح' ابوالحسن شرنبلالی 'ص ۲۳۷۔
 - ❁ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 'ماثبت فی السنة' ص ۲۹۲۔
 - ❁ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعدد حواشی میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ مثلاً عمدۃ الرعاۃ ۱/۲۰۷۔
 - ❁ تعليق الممجد 'ص ۱۳۸۔
 - ❁ تحفة الاخيار 'ص ۲۸' طبع لکھنؤ۔
 - ❁ حاشیہ ہدایہ ۱/۱۵۱۔ طبع قرآن محل کراچی۔
 - ❁ مولانا انور شاہ کشمیری کی صراحت کیلئے ملاحظہ ہو: فیض الباری ۱/۳۲۰۔
 - ❁ العرف الشذی 'ص ۳۰۹۔
 - ❁ كشف الستور عن صلوة الوتر 'ص ۲۷۔
 - ❁ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 'مصنفی' شرح مؤطا فارسی مع مسوی ۱/۱۷۷۔
 - ❁ طبع کتب خانہ رحیمیہ دہلی ۱۳۳۶ھ۔ وغیرہا من الکتب۔
- ان تمام مذکورہ کتابوں میں سے بعض میں اگرچہ بعض صحابہ کے عمل کی بنیاد پر ۲۰ رکعات تراویح کا جواز یا استحباب ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن دو باتیں سب نے متفقہ طور پر تسلیم کی ہیں کہ تراویح کی مسنون تعداد آٹھ رکعات اور وتر سمیت گیارہ (۱۱) رکعات ہی ہیں نہ کہ بیس یا اس سے زیادہ۔ دوسری بات یہ کہ (۲۰) رکعات والی حدیث بالکل ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔
- ❁ تراویح نقلی نماز ہے اور ایک مومن نوافل ادا کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصد

اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا خصوصی قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن عام مساجد میں جس طرح قرآن مجید تراویح میں پڑھا اور سنا جاتا ہے اور جتنی سرعت اور برق رفتاری سے رکوع، سجود اور قومہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح قرآن کریم اور نماز کا حلیہ بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع کی جاسکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تیزی اور روانی میں قرآن کریم کے سارے اعجاز، فصاحت و بلاغت اور اس کے انذار و تبشیر کا بیڑا غرق کر دیا جائے اور اسی طرح نماز کی ساری روح مسخ کر دی جائے اور پھر امید رکھی جائے کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہم اس کے قرب خصوصی کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ سراسر بھول اور فریب نفس ہے، شیطان کا بہکاوا اور اس کا وسوسہ ہے، ہماری نادانی اور جمالت ہے۔

اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے قیام اللیل (تراویح) کی وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی ہے کہ:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(صحیح البخاری، صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ح: ۲۰۰۹)

”جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں حسن تجوید اور ترتیل کا اور اسی طرح نمازوں میں ارکان اعتدال کا اہتمام کریں، جیسا کہ ان دونوں باتوں کی تاکید ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا سننا کار ثواب ہے نہ تراویح و شبینوں کے اہتمام ہی کی کوئی اہمیت ہے۔

صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل

رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (صحیح البخاری، الزکاة، باب فرض صدقۃ الفطر، ح: ۱۵۰۳ و صحیح مسلم، الزکاة، باب زکاة الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر، ح: ۹۸۴)

”رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ الفطر مقرر فرمائی ہے، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو، یا بڑا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ اسے نمازِ عید کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔“

اس حدیث سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے۔

- ① صدقۃ الفطر کے لئے صاحب نصاب یا صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب۔ غریب بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اسے اس پر پھر لوٹا دے گا۔
- ② یہ ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ غلام اور نوکر چاکروں پر بھی فرض ہے۔ ان کے بڑے اور آقا چھوٹوں اور ماتحتوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔
- ③ اس کی مقدار ایک صاع مجازی ہے جو ڈھائی کلو کا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طرف

سے ڈھائی کلو غلہ ادا کیا جائے۔ بہتر ہے کہ کوئی جنس نکالی جائے، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔

۴ اس کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، مساکین و غربا اور یتیم و بیوگان وغیرہ۔ یا دینی مدارس کے طلباء۔

۵ اسے نماز عید کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ بعض لوگ عید گاہ پہنچ کر وہاں ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔

۶ اسے عید سے دو تین دن قبل بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔

«كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (صحیح البخاری،

الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، ح: ۱۵۱۱)



رمضان المبارک میں کرنے والے کام

ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ | اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی

وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جیسے:

❁ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

❁ اس کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں ایک قدر کی رات (شب قدر) ہوتی ہے،

جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (القدر: ۹۷/۳)

”شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“ ہزار مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام

طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا

احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی فضیلت والی رات عطا کی۔

❁ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔

❁ اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند

کر دیئے جاتے ہیں۔

❁ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

❁ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین فرماتا ہے اور پھر جنت سے خطاب

کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ

کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔

❁ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر

انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا۔
 ❁ فرشتے، جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے، ان کے حق میں رحمت
 و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔

❁ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ
 اور خوشگوار ہے۔

یہ اس مہینے کی چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے
 اس کا استقبال کریں؟ کیا ویسے ہی جیسے ہر مہینے کا استقبال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور
 غفلت کیشیوں سے کرتے ہیں؟ یا اس انداز سے کہ ہم اس کی خصوصیات اور
 فضائل سے بہرہ ور ہو سکیں؟ اور جنت میں داخلے کے اور جہنم سے آزادی کے
 مستحق ہو سکیں؟

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت کے
 پردے چاک کر دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کے ساتھ یہ عزم صادق
 کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور سعادتوں سے ایک
 مرتبہ پھر نوازا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی فضیلتیں حاصل
 کریں گے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اعمال صالحہ بجالانے اور
 زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کریں گے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ
 سمجھیں کہ اس مہینے کے کون سے وہ اعمال صالحہ ہیں جن کی خصوصی فضیلت اور
 تاکید بیان کی گئی ہے۔



رمضان المبارک کے خصوصی اعمال و وظائف

1 روزہ | ان میں سب سے اہم عمل 'روزہ رکھنا ہے' نبی ﷺ نے فرمایا:

«كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ (وَشْرَابَهُ) مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
(صحیح البخاری، باب فضل الصوم، ح: ۱۸۹۴ و صحیح مسلم، الصیام،

باب فضل الصیام، ح: ۱۶۴-۱۶۵ واللفظ لمسلم)

”انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر اسے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملتا ہے۔ لیکن روزے کی بابت اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ یہ عمل (چونکہ) خالص میرے لئے ہے، اس لئے میں ہی اس کی جزاء دوں گا۔ (کیونکہ) روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش، کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔“

ایک دوسری روایت میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(صحیح البخاری، الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً،
ح: ۱۹۰۱)

”جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (یعنی
اخلاص سے) رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“
یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا،
بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار ہو گا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی
پورے کرے گا۔ جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بد گوئی اور گالی گلوچ سے، دھوکہ
فریب دینے سے اور اس قسم کی تمام بے ہودگیوں اور بد عملیوں سے بھی اجتناب
کرے گا۔ اس لئے کہ فرمان نبوی ہے:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لَللَّهِ حَاجَةٌ فِي
أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب من لم يدع
قول الزور والعمل به في الصوم، ح: ۱۹۰۳)

”جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی
حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“

اور فرمایا:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزُفُ وَلَا
يُصْحَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنْ أَمْرٌ صَائِمٌ»
(صحیح البخاری، الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم، ح: ۱۹۰۴)
وصحیح مسلم، الصيام، باب فضل الصيام، ح: ۱۱۵۱)

”روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، تو وہ دل لگی کی
باتیں کرے نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو
(اس کو) کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔“

یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے سے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح جو روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا، تو اس کے لئے ہی یہ روزہ جنم سے بچاؤ کے لئے ڈھال ثابت ہو گا۔ اس لئے جب ایک مسلمان روزہ رکھے، تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو۔ یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو اور اس کی روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو بلکہ ان دونوں حالتوں اور دنوں میں فرق و امتیاز واضح اور نمایاں ہو۔

2 قیام اللیل | دوسرا عمل، قیام اللیل ہے۔ یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن (رحمن کے بندوں) کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (الفرقان ۲۵/۶۴)

”ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجد میں گزرتی ہیں“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(صحیح البخاری، صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ح: ۲۰۰۹
صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو

التراويح، ح: ۷۵۹)

”جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت (اخلاص) سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

راتوں کا قیام نبی کریم ﷺ کا بھی مستقل معمول تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور ہر دور کے اہل علم و صلاح اور

اصحاب زہد و تقویٰ کا یہ امتیاز رہا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رات کا یہ تیسرا آخری پہر اس لئے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے:

«مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (صحیح البخاری، التہجد، باب الدعاء والصلاة
من آخر الليل، ح: ۱۱۴۵)

”کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے
سوال کرے، تو میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے،
تو میں اسے بخش دوں؟“

3] صدقہ و خیرات | تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا
يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ... فَإِذَا لَقِيَهِ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» (مسلم، الفضائل، باب
جوده ﷺ، ح: ۲۳۰۸)

”نبی ﷺ بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ
کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی.... اس مہینے میں (قرآن
کا دور کرنے کیلئے) آپ سے جب جبریل علیہ السلام ملتے، تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ
اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں
صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔

صدقہ و خیرات کا مطلب ہے اللہ کی رضا جوئی کیلئے فقراء و مساکین، یتامی و یتامیوں اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا۔ بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔

سلف صالحین میں اطعام طعام کا ذوق و جذبہ بڑا عام تھا، اور یہ سلسلہ بھوکوں اور تنگ دستوں ہی کو کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی شوق فراواں تھا، اس لئے کہ اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جن سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔

4 روزے کھلوانا | ایک عمل روزے کھلوانا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» (جامع الترمذی، الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائما، ح: ۸۰۷)

”جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا، تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔“

ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

«مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» (شرح السنة، باب ثواب من فطر صائما، ح: ۱۸۱۹ وشعب الإيمان، الصيام، فضل فيمن فطر صائما، ح: ۳۹۵۳)

”جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا یا کسی مجاہد کو سامان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لئے بھی اس کی مثل اجر ہے۔“

5 کثرت تلاوت | قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لئے قرآن

کریم کا نہایت گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم ﷺ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اور صحابہ و تابعین بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، ان میں سے کوئی دس دن میں، کوئی سات دن میں اور کوئی تین دن میں قرآن ختم کر لیا کرتا تھا۔ اور بعض کی بابت آتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم مدت میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں تین دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو ممانعت ہے، اس کا تعلق عام حالات و ایام سے ہے۔ فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی ان اوقات اور مقامات میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے شب و روز، بالخصوص شب قدر ہے۔ یا جیسے مکہ ہے جہاں حج یا عمرے کی نیت سے کوئی گیا ہو۔ ان اوقات اور جگہوں میں چونکہ انسان ذکر و عبادت کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اس لئے کثرت تلاوت بھی مستحب ہے۔ تاہم حدیث کے عموم کو ملحوظ رکھنا اور کسی بھی وقت یا جگہ کو اس سے مستثنیٰ نہ کرنا، زیادہ صحیح ہے۔ توجہ اور اہتمام سے روزانہ دس پاروں کی تلاوت بھی کافی ہے، باقی اوقات میں انسان دوسری عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ یا قرآن کریم کے مطالب و معانی کے سمجھنے میں صرف کر سکتا ہے۔ کیونکہ جس طرح تلاوت مستحب و مطلوب ہے، اسی طرح قرآن میں تدبر کرنا اور اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا بھی پسندیدہ اور امر مؤکد ہے۔

6 تلاوت قرآن میں خوف و بکاء کی مطلوبیت | قرآن کریم کو پڑھتے اور سنتے

وقت انسان پر خوف اور رقت

کی کیفیت بھی طاری ہونی چاہئے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے اور سننے والے مطالب و معانی سے بھی واقف ہوں۔ اسی لئے قرآن کو شعروں کی سی تیزی اور روانی

سے پڑھنے کی ممانعت ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو محض تاریخ و قصص کی کتاب نہ سمجھا جائے بلکہ اسے کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھا جائے، آیات وعد و وعید اور انذار و تبشیر پر غور کیا جائے، جہاں اللہ کی رحمت و مغفرت اور اس کی بشارتوں اور نعمتوں کا بیان ہے وہاں اللہ سے ان کا سوال کیا جائے اور جہاں اس کے انذار و تحویف اور عذاب و وعید کا تذکرہ ہو، وہاں ان سے پناہ مانگی جائے۔ ہمارے اسلاف اس طرح غور و تدبر سے قرآن پڑھتے تو ان پر بعض دفعہ ایسی کیفیت اور رقت طاری ہوتی کہ بار بار وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے اور خوب بارگاہ الہی میں گڑگڑاتے۔ سننے والے بھی غور و تدبر سے سنیں تو ان پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا: «أَقْرَأْ عَلَيَّ» ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

«أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ»

”میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

«إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»

”میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنا چاہتا ہوں“ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے

سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰئِلٍ ۗ

شَهِيدًا ﴿٤١﴾ (النساء ۴/۴۱)

”اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور

(اے محمد ﷺ) ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔“

تو آپ نے فرمایا: «حَسْبُكَ» ”بس کرو“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری

تھے۔ (صحیح بخاری، تفسیر سورة النساء، حدیث: ۳۵۸۲)

نبی ﷺ اس طرح غور و تدبیر سے قرآن پڑھتے اور اس سے اثر پذیر ہوتے کہ جن سورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔

«شَيْبَتِي هُوَ وَأَخَوَاتُهَا قَبْلَ الْمَشِيبِ» (المعجم الكبير للطبراني

۱۷/۲۸۶/۷۹۰، وانظر الصحيحه، ح: ۹۵۵)

دوسری روایت میں ہے:

«شَيْبَتِي هُوَ وَالْوَأَقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» (جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة الواقعة، ح: ۳۲۹۷ وصحيح الجامع

الصغير: ۱/۶۹۲)

”مجھے سورہ ہود (اور اس جیسی دوسری سورتوں) سورہ واقعہ، مرسلات اور (عم يتساءلون) نے بوڑھا کر دیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا اور رونا، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”سات آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطاء فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہو گا جس کی آنکھوں سے تمہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عظمت و ہیبت کے تصور سے آنسو جاری ہو جائیں۔“

«رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (صحیح البخاری، الأذان،

باب من جلس في المسجد يتظر الصلاة... الخ، ح: ۶۶۰، ۶۴۷۹)

ایک واقعہ نبی ﷺ نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور بہت گناہ کئے ہیں۔ چنانچہ موت کے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت

کی کہ میری لاش جلا کر اس کی راکھ تیز ہو میں اڑا دینا (بعض روایت میں ہے کہ سمندر میں پھینک دینا) چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: ”تو نے ایسا کیوں کیا؟“ اس نے کہا صرف تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح بخاری، الرقاق، باب الخوف من اللہ عزوجل، حدیث: ۶۴۸۱)

بہر حال اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت غور و تدبر سے کی جائے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھا جائے اور اللہ کی عظمت و جلالت کو قلب و ذہن میں مستحضر کیا جائے۔

7] اعتکاف | رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے۔ نبی اکرم ﷺ اس کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری دس دن، رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دنیوی معمولات اور تعلقات ختم فرما دیتے۔ نبی اکرم ﷺ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو آپ نے شوال کے آخری دس دن اعتکاف فرمایا۔ (صحیح بخاری، الاعتکاف، باب الاعتکاف فی شوال، حدیث: ۲۰۴۱)

اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں دس دن کی بجائے ۲۰ دن اعتکاف فرمایا۔ (صحیح بخاری، الاعتکاف، حدیث: ۲۰۴۲)

اعتکاف کے معنی ہیں ”بھک کر یک سوئی سے بیٹھ رہنا“ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس گوشہ خلوت میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرتا ہے۔ نوافل پڑھتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے۔ دعا و التجا کرتا ہے اور یہ سارے ہی کام عبادت ہیں۔ اس اعتبار سے اعتکاف گویا مجموعہ عبادات ہے۔

اعتکاف کے ضروری مسائل

اس موقع پر اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سمجھ لینے مناسب ہیں:

- ① اس کا آغاز ۲۰ رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ مُغْتَكِفٌ مغرب سے پہلے مسجد میں آجائے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر مُغْتَكِفٌ (جائے اعتکاف) میں داخل ہو۔
- ② اس میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
- ③ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور اس قسم کے دیگر رفاہی اور معاشرتی امور میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔
- ④ البتہ بیوی آکر مل سکتی ہے، خاوند کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے۔ خاوند بھی اسے چھوڑنے کے لئے گھر تک جاسکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انتظام نہ ہو اور گھر بھی قریب ہو تو اپنی ضروریات زندگی لینے کے لئے گھر جاسکتا ہے۔
- ⑤ غسل کرنے اور چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔
- ⑥ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے، یعنی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔
- ⑦ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لئے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ مساجد ہی ہیں نہ کہ گھر۔ جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں اور ان کے خیمے مسجد نبوی میں ہی لگتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وضاحت موجود ہے اور قرآن کریم کی آیت: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرہ ۱۸۷) سے بھی واضح ہے۔

اس لئے عورتوں کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا رواج بے اصل اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ تاہم چونکہ یہ نقلی عبادت ہے۔ بنا بریں جب تک کسی مسجد

میں عورتوں کیلئے الگ مستقل جگہ نہ ہو، جہاں مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیئے۔

ایک فقہی اصول ہے ((دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ)) ”یعنی خرابیوں سے بچنا اور ان کے امکانات کو ٹالنا بہ نسبت مصالح حاصل کرنے کے، زیادہ ضروری ہے۔“ اس لئے جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، وہاں اس کے لئے اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں۔

﴿۸﴾ لیلۃ القدر کی تلاش | لیلۃ القدر، جس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے پانچوں راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے۔ نبی ﷺ نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ» (صحیح البخاری، فضل لیلۃ القدر، باب (۱)، ح: ۲۰۱۴)

”جس نے شب قدر میں قیام کیا (یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی) اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا:

«إِنِّي أُرِنْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيْتُهَا (أَوْ أُنْسِيْتُهَا)

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وَتْرٍ» (صحیح مسلم،

الصيام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبها... الخ، ح: ۱۱۶۷)

”مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، لیکن (اب) اسے بھول گیا (یا مجھے بھلا دیا گیا)

پس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔“

یعنی ان طاق راتوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تاکہ تم لیلتہ القدر کی فضیلت پاسکو۔

﴿۹﴾ آخری عشرے میں نبی ﷺ کا معمول یہ بات واضح ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیا

جاتا ہے اور اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات 'لیلتہ القدر بھی ہے' جس کی تلاش و جستجو میں ان راتوں کو قیام کرنے اور ذکر و عبادت میں رات گزارنے کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اس عشرہ اخیر میں عبادت کے لئے خود بھی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ، أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» (صحیح مسلم، الاعتکاف، باب الاجتهاد

في العشر الأواخر من شهر رمضان، ح: ۱۱۷۴)

”رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور (عبادت میں) خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔“

ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» (صحیح مسلم، الاعتکاف، ح: ۱۱۷۵)

”رسول اللہ ﷺ آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔“

اس محنت اور کوشش سے مراد، ذکر و عبادت کی محنت اور کوشش ہے۔ اس لئے ہمیں بھی ان آخری دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ذکر و عبادت اور توبہ و استغفار کا خوب خوب اہتمام کرنا چاہئے۔

﴿۱۰﴾ لیلۃ القدر کی خصوصی دعا | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ

یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھو:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (جامع الترمذی،

الدعوات، باب فی فضل سؤال العافیة والمعافیة، ح: ۳۵۱۳)

”اے اللہ! تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے

معاف فرمادے۔“

﴿۱۱﴾ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا | رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

عورت سے فرمایا:

«فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ

حَجَّةٌ» (صحیح البخاری، العمرة، باب عمرة في رمضان، ح: ۱۷۸۲)

و صحیح مسلم، الحج، باب فضل العمرة في رمضان، ح: ۱۲۵۶)

اور بخاری کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

«حَجَّةٌ مَعِيَ» (صحیح البخاری، جزاء الصید، ح: ۱۸۶۳)

اس مقام پر اس عورت کا نام بھی ام سنان انصاریہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: ”جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لئے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔“

﴿۱۲﴾ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ اکثر فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلے پر

تشریف رکھتے یہاں تک کہ سورج خوب چڑھ آتا۔

«أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مِصْلَاهُ حَتَّى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا» (صحیح مسلم، المساجد، باب فضل الجلوس في

مصلاہ بعد الصبح وفضل المساجد، ح: ۶۷۰)

ایک اور حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ» (جامع الترمذی، الجمعة، باب ما ذکر مما يستحب من الجلوس... الخ، ح: ۵۸۶ وحسنه الألبانی فی تعلیق مشکوٰۃ: ۱/۳۰۶، باب الذکر بعد الصلوة)

”جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر (سجد میں) بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی، تو اس کو ایک حج اور عمرے کی مثل اجر ملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پورے حج و عمرے کا، پورے حج و عمرے کا، پورے حج و عمرے کا“

یہ فضیلت عام ہے، رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں مذکورہ دو رکعتوں کی وہ فضیلت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسے اعمال رمضان میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں میں تو ہر مسلمان کیلئے اس فضیلت کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ تاہم رمضان میں، جب کہ نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ قوی اور ثواب کمانے کا شوق فراوان ہوتا ہے، اس لئے رمضان میں تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیئے۔

﴿۱۳﴾ کثرت دعا کی ضرورت | قرآن مجید میں اللہ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ﴿۱۸۶﴾

(البقرة ۲/۱۸۶)

”جب میرے بندے آپ سے میری بابت پوچھیں، تو میں قریب ہوں، پکارنے

والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارے، لوگوں کو چاہئے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔“

اس سے علماء اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس انداز بیان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ ایک تو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے، روزے کی حالت میں انسان نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور توبہ و استغفار بھی کرتا ہے۔ اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔

اس لئے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تاہم قبولیت دعا کے لئے ضروری ہے کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جیسے:

۱ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی ﷺ پر درود کا اہتمام۔

۲ حضور قلب اور خشوع کا اظہار۔

۳ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و یقین۔

۴ تسلسل و تکرار سے دعا کرنا اور جلد بازی سے گریز۔

۵ صرف حلال کمائی پر قناعت اور حرام کمائی سے اجتناب، وغیرہ۔

اس سلسلے میں چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَأِهِ» (جامع الترمذی، الدعوات،

باب فی إيجاب الدعاء بتقدیم الصمد والثناء... الخ، ح: ۳۴۷۹)

”اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ وہ ضرور دعا قبول

فرمائے گا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل، بے پروا دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا:

«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَاِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ»

(صحیح البخاری، الدعوات. باب لیعزم المسألة فإنه لا مکره له، ح: ۶۳۳۹ و صحیح مسلم، الذکر والدعاء...، باب العزم بالدعاء ولا یقل ان شئت،

ح: ۲۶۷۹)

”جب تم میں سے کوئی دعا کرے، تو اس طرح دعا نہ کرے: ”اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما“ بلکہ پورے یقین، اذعان اور الحاح و اصرار سے دعا کرے۔ اس لئے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ، مَا لَمْ يَسْتَعْجَلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي،

فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدْعُ الدُّعَاءَ» (صحیح البخاری، الدعوات،

باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، ح: ۶۳۴۰ و صحیح مسلم، الذکر والدعاء،

باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل... الخ، ح: ۲۷۳۵ واللفظ

لمسلم)

”بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی بھی نہ کی جائے۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کہتا ہے، میں نے دعا کی اور بار بار دعا کی۔ لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ست اور مایوس ہو

جاتا اور دعا کرنا چھوڑ بیٹھتا ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد و غبار میں اٹا ہوا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور کہتا ہے:

«يَا رَبَّ يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» (صحیح

مسلم، الزکاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح: ۱۰۱۵)

”اے رب! اے رب! کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، حرام کی غذا ہی اس کی خوراک ہے، تو ایسے شخص کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟“

مذکورہ احادیث سے ان آداب و شرائط کی وضاحت ہو جاتی ہے جو اس عنوان کے آغاز میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے یا اس کے عوض کچھ اور فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْهُمْ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذَنْ نُكْثِرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ» (مسند

احمد: ۱۸/۳)

”جو مسلمان بھی کوئی دعا کرتا ہے۔ بشرطیکہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دعا کی وجہ سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو فی الفور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لئے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے یا اس سے اس کی مثل اس کو پہنچنے والی برائی کو دور کر دیتا

ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا: تب تو ہم خوب دعائیں کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں۔“

﴿۱۴﴾ ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کی فضیلت | انسان کو صرف اپنے ہی لئے دعا نہیں کرنی

چاہیے، بلکہ اپنے دوست احباب اور خویش واقارب کے حق میں پر خلوص دعائیں کرنی چاہئیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ - بظَهْرِ الْغَيْبِ - مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ» (صحیح مسلم، الذکر والدعاء، باب

فضل الدعاء بظہر الغیب، ح: ۲۷۳۳)

”مسلمان کی اپنے (مسلمان) بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر پر ایک مقررہ فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے دعائے خیر کرتا ہے، تو اس پر مقررہ فرشتہ کہتا ہے ”آمین“ (اے اللہ! اس کی دعا قبول فرما لے) اور تجھے بھی اس کی مثل اللہ دے۔“

﴿۱۵﴾ بددعا سے اجتناب کیا جائے | انسان فطرتاً کمزور اور جلد باز ہے، اس لئے جب وہ کسی سے تنگ آجاتا ہے تو فوراً بد

دعائیں دینی شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی بددعائیں دینے سے گریز نہیں کرتا۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ» (صحیح مسلم، الزهد والرفاق، باب حدیث

جابر الطویل، وقصة أبي اليسر، ح: ۳۰۰۹)

”اپنے لئے بددعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو، اپنے مال اور کاروبار کے لئے بددعا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرمادیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بددعائیں تمہارے ہی حق میں قبول کر لی جائیں۔“

﴿مظلوم کی آہ سے بچو﴾ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بلکہ کسی بھی انسان پر ظلم نہ کرے۔ اس لئے کہ مظلوم کی بددعا فوراً عرش پر پہنچتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيَسَّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا»
(صحیح البخاری، الزکاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء... الخ، ح: ۱۴۹۶)
وصحیح مسلم، الإیمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ح: ۱۹)

”مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لئے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔“

﴿حق تلفیوں کا ازالہ اور گناہوں سے اجتناب کریں﴾ یہ مہینہ توبہ و استغفار اور اللہ کی رحمت

و مغفرت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں ایک مسلمان کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اور توبہ و استغفار سے حقوق اللہ تعالیٰ میں روارکھی گئی کوتاہیاں تو شاید اللہ معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں اس وقت تک معاف نہیں ہوں گی، جب تک دنیا میں ان کا ازالہ نہ کر لیا جائے۔ مثلاً کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے واپس کیا جائے۔ کسی کو سب و شتم یا الزام و بہتان کا نشانہ بنایا ہے تو اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کیا جائے، کسی کی زمین یا کوئی اور جائیداد ہتھیائی ہے تو وہ اسے لوٹا دے۔ جب تک ایک مسلمان اس طرح تلافی اور ازالہ نہیں کرے گا، اس کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح وہ کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا

ارتکاب کر رہا ہے۔ مثلاً رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام اور ناجائز چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، یا کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے، تو جب تک ان گناہوں اور حرکتوں سے بھی انسان باز نہیں آئے گا اس کی توبہ بے معنی اور مذاق ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت عام ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مستحق وہی مومن قرار پاتے ہیں جنہوں نے گناہوں کو ترک کر کے اور حقوق العباد ادا کر کے خالص توبہ کر لی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ تو اس مہینے میں بھی رحمت و مغفرت الہی سے محروم رہ سکتے ہیں۔

﴿۱۸﴾ اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک کریں | اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے

کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپس میں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کی بابت بغض و عناد سے پاک کریں، قطع رحمی سے اجتناب کریں اور اگر ایک دوسرے سے دنیوی معاملات کی وجہ سے بول چال بند کی ہوئی ہے تو آپس میں تعلقات بحال کریں۔ ورنہ یہ قطع رحمی، ترک تعلق اور باہم بغض و عناد بھی مغفرت الہی سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (صحیح

مسلم، البر والصلوة والأدب، باب النهي عن الشحناء، ح: ۲۵۶۵)

”پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور

بغض ہو۔ ان کی بابت کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔“

اس حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپس میں بغض و عناد اور ترک تعلق کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے اور تعلق ترک کئے رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» (مسند احمد: ۱/۱۷۶، ۱۸۳ و سنن ابی داود، الأدب، باب في هجرة الرجل أخاه، ح: ۴۹۱۴ وقال الألباني، إسناده صحيح، انظر تعليق المشكوة: ۳/۱۴۰۰)

”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق منقطع کئے رکھے۔ اور جس نے تین دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں اس کو موت آگئی تو وہ جہنمی ہے۔“

اسی طرح قطع رحمی کا جرم ہے یعنی رشتے داروں سے رشتے ناطے توڑ لینا، ان سے بد سلوکی کرنا اور ان سے تعلق قائم نہ رکھنا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» (صحیح مسلم، البر والصلوة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ح: ۲۵۵۶)

”قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتے ہیں اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت و مغفرت الہی کا مستحق بنا دیں۔ (آمین)

ایک مختصر گریجنگ تفسیر صحیح احادیث کی روشنی میں
تفسیر اس البیان اردو حافظ صلاح الزین نے لکھی
نورانی مصطفیٰ الزین نے تیار کی

قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کا اختصار اور زمان میں پہلی بار
مختصر صحیح بخاری اردو انہماک نے اردو زبان میں پہلی بار
نورانی مصطفیٰ الزین نے تیار کی

عالم عرب میں پڑھا جانے والا احادیث مبارکہ کا قبول ترین مجملہ
ریاض الشاکرین اردو ابو ذکریا حسین بن شہدائے السنہ و
تیسرے قسط کا اختصار اللغات میں

فقیہی حکام مسائل کا انسائیکلو پیڈیا
بلوغ المرآة اردو شہانہ انوار محمد انور نے لکھی
شامی مصطفیٰ الزین نے تیار کی

کتاب زندگی کا انسائیکلو پیڈیا
زندگی کے ہر مسئلے کا شرعی حل
منہاج المسلم اردو مولانا محمد رفیع نے لکھی
مولانا محمد رفیع نے تیار کی

سیرۃ نکاحی میں عالمی ایسا رفاقتہ مصنف کے قلم سے

پہلی کتاب ان دنوں کا
تجلیات نبوت اردو مصطفیٰ الزین نے تیار کی

